

قدیم دور کے چند ستدھی فقہائے کرام

اُنہیں پہلی صدی ہجری ہی میں اسلام سے آشنا ہو گئی تھی اور خلبیہ ثانی حضرت عمر فاتح رضی اللہ عنہ کے عہد میں عرب فوجوں نے اس سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ پھر حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی یہ سلسلہ مختلف صورتوں میں جاری رہا۔ ہنس پر بآ قاعدہ فوجیں اہمی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمان میں ۹۳ھ میں محمد بن قاسم نے اتریں، جن کی پہلی نزول ساحل دریائے سندھ تھا۔ چونکہ یہ تابعین اور تبع تابعین کا نام تھا اور ان حضرات میں سے اکثر کو تصورِ علم کے ساتھ ساتھ جنگ و جہاد سے بھی تعلق خاطر تھا اس لیے ظاہر ہے محمد بن قاسم کی فوج میں محنت ، فتحیہ اور شاعر وغیرہ ہر قسم کے لوگ شامل ہوں گے! مگر یہیں اس کی تفصیلات نہیں تھیں تاہم سطورِ ذیل میں ابتدائی دور کے ان چند فقہائے کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کے کچھ نہ کچھ حالات دست یا بہو سکتے ہیں اور جن کا کسی نہ کسی نوعیت سے ہندو سندھ کے ساتھ تعلق رہا ہے۔

مولائے اسلام دیبلی

محمد بن قاسم ۹۳ھ میں ساحل سندھ پر اُتر سے اور ان سے ملتے ہی سندھ کے بعض لوگ حلقہ مسلمان میں داخل ہو گئے۔ ان میں ایک شخص مولائے اسلام بھی تھے، جن کو «مولائے اسلامی» «مولائے دیبلی» اور «مولائے اسلام دیبلی» سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ محمد بن قاسم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ نہایت فہیم و فریض تھے۔ معلوم ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے پڑھنے لکھنے تھے اور راصد داہر کے سرکاری حلقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلامی تعلیم بھی انہوں نے بہت جلد حاصل کر لیا ہے۔ کی وجہ سے محمد بن قاسم کے نزدیک قابلِ اختیار سمجھے جانے لگے۔ عربی زبان پر بھی انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ ہجت نامہ کی روایت کے مطابق جب محمد بن قاسم

نے دبیائے سندھ کے ساحل پر قدم رکھا اور حالات کا جائزہ لیا تو اپنے ایک شایعہ کو قاصد کی جیشیت سے داہر کے پاس بھیجا اور بطور ترجمان کے مولائے اسلامی کوان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ داہر کے دربار میں پہنچے تو مرودجہ درباری آداب بجالائے اور راجہ کو سر جھکا کر سلام کیے بغیر مدینہ گئے۔ داہر مولائے اسلامی کو جانتا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ لہذا اس نے سلام دکوریش کے تقاضے پر سے نہ کرنے کی وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا۔

چرا برقرار قانون شرط خدمت را اقتضت نہودی، مکرر نہ منع وزجر کردہ اندر۔ ہے

تم نے درباری آداب و قاعد کی شرط پوری کیوں نہیں کی؟ شاید تمھیں اس سے روک دیا گیا ہے؟ مولائی جواب گفت: من آن وقت درکیش شما بودم، واجب بودی بمن نا شرط عبودیت بجا آوردم۔ و اکنوں بعض اسلام مشرف گشتہ ام و تعلق مابہ با دشاد اسلام شد، شرط نباشد کہ پیش کافر سفر فرماداوم۔

مولائے اسلامی نے جواب دیا جب میں تمہارے فہیب میں داخل تھا، اس وقت درباری نویسیت کی بندگی و نیازمندی کے قاعد پر عمل گزناہی سے یہ ضروری تھا۔ لیکن اب کہ میں شرف اسلام سے مشرف ہو گیا ہوں اور میرا اعلق با دشاد اسلام سے قائم ہو چکا ہے، مجھ پر کافر کے آگے سر جھکانا واجب نہیں رہا۔

داہر، ان سے اس اندازِ گفتگو کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس نے نہایت خفگی کے عالم میں مولائے اسلامی سے کہا:

اگر تو رسول نہ بودی، نہ اسیست فرمودی تا ترا العقوبت بکشندی۔

اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے اس قدر سزا ویتا کہ تموت کے لھاث اتر جاتا۔ مولائے اسلامی نے جواب دیا۔

اگر اتفاق تو برکشتن ماست، عرب رازیانی نیا شد و بحث باز طلب خون ما الفصاف ستان ان ہستند بہابست تو کفاف باشندے

لـ فتح نامہ مددہـ المعروف بـ فتح نامہ علی بن حامد بن ابو بکر کوفی۔ ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۲۱۰، ۳۴۲۱۱، ۳۴۲۱۲، ۳۴۲۱۳، ۳۴۲۱۴، ۳۴۲۱۵، ۳۴۲۱۶، ۳۴۲۱۷، ۳۴۲۱۸، ۳۴۲۱۹، ۳۴۲۲۰، ۳۴۲۲۱، ۳۴۲۲۲، ۳۴۲۲۳، ۳۴۲۲۴، ۳۴۲۲۵، ۳۴۲۲۶، ۳۴۲۲۷، ۳۴۲۲۸، ۳۴۲۲۹، ۳۴۲۳۰، ۳۴۲۳۱، ۳۴۲۳۲، ۳۴۲۳۳، ۳۴۲۳۴، ۳۴۲۳۵، ۳۴۲۳۶، ۳۴۲۳۷، ۳۴۲۳۸، ۳۴۲۳۹، ۳۴۲۳۱۰، ۳۴۲۳۱۱، ۳۴۲۳۱۲، ۳۴۲۳۱۳، ۳۴۲۳۱۴، ۳۴۲۳۱۵، ۳۴۲۳۱۶، ۳۴۲۳۱۷، ۳۴۲۳۱۸، ۳۴۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۱۰، ۳۴۲۳۲۱۱، ۳۴۲۳۲۱۲، ۳۴۲۳۲۱۳، ۳۴۲۳۲۱۴، ۳۴۲۳۲۱۵، ۳۴۲۳۲۱۶، ۳۴۲۳۲۱۷، ۳۴۲۳۲۱۸، ۳۴۲۳۲۱۹، ۳۴۲۳۲۲۰، ۳۴۲۳۲۲۱، ۳۴۲۳۲۲۲، ۳۴۲۳۲۲۳، ۳۴۲۳۲۲۴، ۳۴۲۳۲۲۵، ۳۴۲۳۲۲۶، ۳۴۲۳۲۲۷، ۳۴۲۳۲۲۸، ۳۴۲۳۲۲۹، ۳۴۲۳۲۳۰، ۳۴۲۳۲۳۱، ۳۴۲۳۲۳۲، ۳۴۲۳۲۳۳، ۳۴۲۳۲۳۴، ۳۴۲۳۲۳۵، ۳۴۲۳۲۳۶، ۳۴۲۳۲۳۷، ۳۴۲۳۲۳۸، ۳۴۲۳۲۳۹، ۳۴۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۸، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۲۹، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۰، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۵، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۶، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷، ۳۴۲۳۲۳۲۳۲۳

اگر تو مجھے بھی کہا دے تو اس سے عربوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، میرے خون کا انقام نہیں
والے موجود ہیں، جن کا ہاتھ تیرے دامن تک ہر حال میں پہنچ کر رہے گا۔

بیہق بن حبیب سعدی بصری

ان کی کنیت ابو بکر اور ایک روایت کے مطابق ابو حفص تھی۔ بصر کے باشندہ تھے،
اس لیے بصری اور بنو سعد بن زید مناہ بن قیم کے سولی سنتے، اس لیے سعدی کہلاتے جلیل القدر
تابعی تھے۔ حضرت حسن بصری، حمید الطویل، یزید رفاسی، ابوالزیارت بابت بنافی اور مجاہد بن حبیر
وغیرہم عظیم المرتب حضرات کے شاگرد تھے، خود ان کے شاگردوں میں حفیان ثوری، عبداللہ
بن مبارک، دکیم، عاصم بن علی اور ابن سدری ایسے اعاظم رجال کے اسماء گرامی شامل ہیں۔
تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے محدثانہ نقطہ نظر سے ان کے بارے میں مختلف محدثین کی آراء
تفصیل سے بیان کی ہیں، جن کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں۔ زمانے السلام میں سے تھے بصر
کے بہت بڑے عالم، عبدالرؤف زادہ اور قائم اللیل تھے۔ یہ دہ تائی ہیں جنہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا اور
مجاہدین عرب کے ساتھ سفر زمین ہند میں داخل ہوئے۔ محمد بن المثنی وغیرہ کے بعد ۱۶۰ھ میں
علاقہ سندھ میں وفات پائی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق جہاد کی غرض سے بھری راستے سے
عازم ہوئے، سمندر ہی میں ففات پائی اور جذا ائمہ کے ایک جزیرہ میں دفن کیے گئے۔
یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرہ میں کوئی کتاب تصنیف کی۔ اول من صنف بالبصر تھے
ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ ۵۹۰ھ میں عرب تاجروں کو اہل گجرات سے کوئی
شکایت پیدا ہوئی۔ اس کے ازالہ کے لیے مشهور عباسی خلیفہ عہدی نے عبد الملک بن
شاہ مسمی کے زیر کمان ایک بھری بیڑا داش کیا۔ یہ بیڑا ۱۶۰ھ میں بھاڑ بھوت پہنچا، جو
بھرپور سے سات میل کے فاصلہ پر سجانب مغرب ایک پھی بندہ رکاہ تھی اور جہاں جہاز سمندر
کے مددو ہزر کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اسلامی فوج نے حملہ کر دیا۔

گلہ تہذیب التہذیب۔ ارشاب الرین ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی (ستوی ۲۸۵۲) ج ۳، ص ۱۷۱

ان فوجوں میں بہت سے رضا کار بھی تھے، جن کے سالار ابو بکر ربع بن صبح سعدی بصری تھے، جن کی ایک کنیت ابو حفص تھی۔ ان کو تابعی ہونے کا فخر حاصل تھا۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سامنے جہاد کے موضع سے متعلق زبردست تقریر کی اور اس کو جہاد کے لیے جوش دلایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور مخالفین اسلام، اسلامی فوج کے پر جوش حملوں کو روک نہ سکے۔

حملے کی تاب نہ لائیں باشندگان گجرات شہر میں چلے گئے اور بھاٹک بند کر لیا۔ اسلامی فوج نے شہر کا حاصلہ کر لیا۔ حاصلہ نے طول پکڑا تو لوگ تنگ آگئے۔ آخر ایک دن عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی اور شہر فتح کر لیا گیا۔ لوگ بھاگ کر بڑھوں کے ایک عبارت خانے میں داخل ہو گئے۔ عروں کو اس عبادت خانے پر قلعہ کا شہبزگزار، چنانچہ انہوں نے اس کا حاصلہ کر لیا اور جلد فتح کرنے کے لیے آتش گیر بادہ چینی کا جس سے عبادت خانہ میں آگ بھٹک اٹھی۔ پکھ لوگ جل کر مر گئے، باقی گھبراہیٹ کے عالم میں باہر نکلے، جو تباخ کر دیے گئے۔ اس جگہ میں اتنیں عرب مسلمان بھی شہید ہو گئے۔ اتفاق سے یہ دن تھے، جب وہاں ایک میلہ للہا تھا جس میں گرد و نواح سے کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے، پونکہ میلہ میں شامل ہونے والوں کا بہت بڑا از دحام تھا اور ساتھ ہی اس آتش گیر مارے کا اثر فضما میں پھیلا ہوا تھا، اس لیے شہر میں وہ با پھوٹ پڑی، جس سے ایک ہزار مسلمان سپاہی بھی شہید ہو گئے۔ انہی شہدا میں ابو بکر ربع بن صبح سعدی بصری بھی تھے۔ یہ جو عظیم تابعی، محدث اور فقیہ تھے اور جن کا تعلق سر زمین سندھ یا ہند سے تھا۔

بُنْجَعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَنْدَھِيٌّ مَدْنِيٌّ

ان کی کنیت ابو مشرب ہے۔ یہ سندھ کے فقیہ اور عالم تھے۔ تبع تابعی تھے۔ انہوں نے بہت سے تابعین سے ملائی حدیث کا شرف حاصل کیا، ان کا ذکر ابو سعید عبد الکریم بن محمد بن

منصور تیمی سہماںی (متوفی ۱۵۶۲ھ) نے سندھی علماء اکابر کے حالات کے ضمن میں اپنی مشہور تصنیف *الاشباب* میں امام ذہبی یعنی امام ابو عبد اللہ شمس الدین ذہبی (متوفی ۱۳۸۸ھ) نے تذكرة الحفاظتیں اور حافظ ابن حجر (شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن جعفر عقلانی متوفی ۱۴۸۵ھ) نے تہذیب التہذیب میں کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تو ان کے بارے میں خاصی تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ اصلًا قبیلہ حیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پوتے داؤد بن محمد بن ابو عشر سے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ داؤد کہتے ہیں کہ ان کے والد محمد نے انھیں بتایا کہ ان کے والد ابو عشر اصل میں کے ہاشمیے تھے اور اس وقت قیس کیے گئے جب یزید بن مہلب یہاںہ اور حجرین پر حملہ آئے تو انہما۔

ابو عشر منغازی پر گمراہی نظر رکھتے تھے۔ بنو ہاشم کے مولیٰ تھے۔ انہوں نے ابوالمر بن سہل بن حنیف کو دیکھا اور سعید بن مسیب، محمد بن کعب قظی، ہشام بن موسیٰ بن یاساء، ابو بردہ بن ابو موسیٰ، سعید بن ابو سعید المقری، نافع، محمد بن المنکدہ، محمد بن قیس اور ایک بہت بڑی جماعت سے روایتِ حدیث کی۔ خود ان سے ان کے پیٹے محمد بن ابو عشر، سفیان ثوری اور اہل عراق کی ایک جماعت نے روایت کی۔ ابو زرعة انھیں "صدق" قرار دیتے ہیں اور امام نسائی "لیس بالقوی" کہتے ہیں۔ ابو نعیم انھیں سندھی بتاتے ہیں۔ بقول سمعانی یہ ام سلیمان کے مولیٰ تھے جو اہل مدینہ سے تعلق رکھتی تھیں، اسی بنی پر مدینی کہلائے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب سنن نسائی میں ان سے روایات درج کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انھیں مفارزی کے ماہر قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: کان بصیراً بالمعاذی۔ آخر عمر میں حافظ مختلف ہو گیا تھا، تاہم حدیث و فقہ کی یاد را شت بڑی تیر تھی۔ اور علوم میں حمارت رکھتے تھے "کان من اوعیۃ العلم علی نقص فی حفظه"۔ نیان میں پکلا ہٹ تھی اور "کعب" کو "کعب" کہتے تھے۔

ان کا حلیہ یہ تھا رنگ سرخ، آنکھیں نیل گول، جسم بھاری بھر کم۔ مشہور عباسی خلیفہ محمدی ۱۶۰ھ میں انھیں اپنے ساتھ عراق لے گیا اور ایک ہزار دینار عطا کیے۔ وہ ان سے

بہت تعلق خاطر رکھتا تھا۔ اس نے ان سے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کی درخواست کی۔ رمضان ۲۰، ۱۹۷۴ء میں فوت ہوئے۔ اسی سال خلیفہ ہارون الرشید تخت خلافت پر نشانہ ہوا۔ ان کی علمی اہمیت اور خلفا کے نزدیک ان کی عزت و احترام کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھاتی اور ان کی موت پر نمایت حزن و ملال کا اظہار کیا۔ بفاد کے مقبرۃ الکبیرہ میں دفن کیے گئے ہیں۔

فتح بن عبد اللہ سندھی

ان کی کنیت ابونصر ہے۔ یہ سندھی تھے اور فقیہ و تکلم تھے۔ آل حسن الحکم کے مولیٰ تھے۔ پھر آزاد کردیے گئے۔ فقة اور کلام کی تعلیم ابو علی محمد بن عبد الوہاب ثقفی سے حاصل کی اور حسن بن سفیان وغیرہ سے روایت حدیث کی۔ سعافی نے انساب میں ان کے پارے میں ابوالعلاء احمد بن محمد بن فضل کے سلسلہ روایت کے ذریعے عبد اللہ بن حسین سے ایک عجیب و غریب روایت بیان کی ہے، اس سے پتہ ہے کہ ابونصر فتح بن عبد اللہ کس درجہ حق گو، صاف بیان اور علم و فضل کے مالک تھے۔ وہ روایت یہ ہے کہ عبد اللہ بن حسین کہتے ہیں ایک روز ہم ابونصر سندھی کے ساتھ دھول اور کچڑ سے اٹی ہوئی زمین میں جا رہے تھے اور ان کے بہت سے مادھین و متاثرین بھی ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شہزادہ مدہوشی کی حالت میں زمین پر خاک اور کچڑ میں لست پت پڑا ہے۔ اس نے ہماری طرف اٹھا کر دیکھا تو ابونصر نے منہ قریب کر کے اس کو سوٹھا، اس

۱۵۱۔ الاصاب۔ سعافی۔ دری ۳۱۳۔ بذیل لفظ سندھی۔

۲۔ تذكرة الحفاظ، امام ذہبی۔ جلد اول ص ۲۲۲۔ طبع ثالث۔ دائرۃ المعارف عثمانیہ۔ جید البلدو

دکن۔ چند (مطبوعہ ۱۳۴۵ھ۔ ۱۹۵۵ء)

۳۔ تذییب التذییب۔ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ جلد ۱۰۔ ص ۲۱۹ تا ۲۲۳۔ طبع اول۔ دائرة

المعارف۔ جید البلدو۔ (مطبوعہ ۱۳۶۷ھ۔ ۱۹۴۸ء)

۴۔ سیجم البدران۔ ابو عیینۃ ایزوت بن عبد اللہ جووی۔ ج ۳ ص ۲۶۶۔ طبع ہریوت (۱۳۷۶ھ۔ ۱۹۵۷ء)۔

کے منہ سے مشراب کی بوآر ہی تھی۔ شہزادے نے ابو نصر سے کہا: "او غلام! میں جس حالت میں پڑا ہوں تم دیکھ رہے ہیں تو یعنی تم ہو کرہ نہایت اطہیناں سے چلے جا رہے ہو اور لئے لوگ تھمارے پیچے جا رہے ہیں۔" ابو نصر نے بے باکی سے جواب دیا۔ شہزادے تھیں معلوم ہے اس فرقی مرتب کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے تھمارے آبا و اجدہ کی پیر و می شروع کر دی ہے اور تم میرے آبا و اجدہ کے نقش قلم پر چل پڑے ہو۔" اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :

حد شنی عبد اللہ بن الحسین قال کنا يوما ماع ابى نصر السندرى و فينا لائزة
حوالىه دخن نمشى في الطين فاستقبلنا شریف سکران قد دقع في الطين
فامانظر علينا شمه ابو نصر، وقال نا فن يا عبد انا كسا ترى، وانت نمشى
وخلقت هولاءـ فقال له ابو نصر زيه الشرييف ترى لم هذا؟ لادى
متبع اثاد جدك وانت متبع اثاد جدك

ابونصر فتح بن عبد الله سندری اور سری صدی ہجری کے دیار سندرہ وہند کے ان خوش بخت حضرات میں سے تھے جنہوں نے تابعین کرام کا زمانہ پایا، ان سے روایتِ حدیث و فقہ کی سعادت سے بہرا اندوز ہوتے اور تبع تابعین کی جماعت میں شامل ہونے کا فخر حاصل کیا۔

اسراطیل بن موسیٰ بصری

الخیں ابو موسیٰ بصری بھی کہا جاتا ہے۔ تبع تابعین کی خوش قدرت جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ درحقیقت بصری کے باشندے تھے مگر ہند میں اقامت گزیں ہو گئے تھے۔ حضرت حسن بصری، ابو جاذہ شعبی، محمد بن سیرین، اوہب بن منبه، ایسے اکابر تابعین سے روایتِ حدیث کی جنہوں نے بلاور استصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ زاویتِ تلمذ تکیے اور ان سے شائع حدیث و روایت کا شرف حاصل کیا۔ خود اسرائیل بن موسیٰ رحمہ اللہ علیہ کی تلامذہ میں بھی عظیم القدر حضرات شامل ہیں، جن میں

مشهور حدیث اس فیان ثوری، ابن عبینہ، یحییٰ بن سعید قطان اور حسین بن علی جھُنپُن کے اسماء تے گرامی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

ابن حبان نے ان کو ثقافت میں شمار کیا ہے اور کھا بئے کہ یہ بیان ہند میں سلسلہ سفر کی دوست رکھنے تھے۔ کان یسا فر الم الہمند۔

صحیح البخاری میں ان کے سلسلہ روایت سے ایک حدیث مروی ہے جو چار مقامات پر درج ہے۔
دلہ فی صحیح البخاری فرد حدیث مکرر فی اربعۃ مواضع۔

ابو عاتم اور یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے یحییٰ بن معین ان کی توثیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اسراءشیل عاصِب الحسن ثقہ۔

یعنی حسن بصری کے شاگرد اسرائیل بن موسیٰ نقہ راوی ہیں
ابو عاتم نے ان سے متعلق کا باشنسہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح امام فسانی نے فرمایا ہے۔ یہ بہ بأس۔

صرف تھا امام ازدی ہیں، جن کا نقطہ نظر ان کے بارے میں ان تمام محدثین سے مختلف ہے۔
وہ ان کو ”لین“ یعنی روایت میں مکرر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہ وہ اسرائیل بن موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے وہب بن منبه سے روایت کی اور جو امام سفیان ثوری کے استاد ہیں، بلکہ وہ تو ایک یہاںی شخص تھے۔

سماعانی، انساب میں ان کے ہندی ہونے سے متعلق لکھتے ہیں:

ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ الہمندی بصری کان ینزل الہمند فنسب اليها۔
یعنی ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ ہندی، وحقیقت بصرہ کے باشندے تھے، چونکہ سفر کے سلے میں ان کا ہندوستان آنا جانا تھا، لہذا ہندی کہلاتے۔ یہ محدثین کے طبقہ سادے تعلق رکھتے تھے۔

بهر حال صورتِ واقع خواه کچھ بھی ہو، حقیقتاً یہ اپنی ہوں یا ہندی، اخلاقی ہند سے ان کا گرا تعلق تھا اور یہ سکونت و اقامت کے اعتبار سے "ہندی" مشہور تھے اور برصغیر پاک و ہند کو یہ شرف حاصل ہے کہ اتنا بڑا محدث و فقیہ اس قطعہ زارِ حق سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک تھا۔

سنڌ کا ایک گم نام عالم و مفسر

قبیلہ قوش کی ایک شاخ بنو اسد کے نام سے معروف تھی۔ اس شاخ کے ایک شخص کا نام ہبیار بن اسود تھا، جو ۸ صدی میں مسلمان ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس خاندان کا ایک شخص جس کا نام منذر بن زبیر تھا، والی سنڌ حکم بن عوانہ (متوفی ۱۲۱ھ) کے ساتھ سنڌ ہو پہنچا، اور پھر یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ بنو امية اور عباسیہ دونوں سلطنتوں کے زمانے میں اس خاندان کو سنڌ کی حکومت میں کچھ دل خاصل رہا۔ پھر ۳۲ صدی سنڌ کی حکومت اس خاندان میں منتقل ہو گئی اور اس کا والی (اول منذر بن زبیر کا پوتا عمر بن عبد العزیز) مقرر ہوا۔ یہ خاندان عبا سی خاندان کے ماختت رہا۔ اس خاندان کے تمام والیاں سنڌ نیک، ہمدرد و فلاائق اور حدیث و فقہ کے عالم تھے۔ ان کے زمانے کا ایک واقعہ عجائب الہند میں مذکور ہے، جو لائق تذکرہ ہے۔

۲۔ ۷ صدی میں سنڌ کا والی عبد اللہ بن عمر بیاری مقرر ہوا۔ اس کا دارالسلطنت منصوبہ تھا۔ ۷۰۰ھ میں سنڌ کے ایک شہزادے کے ہندو راجہ نے جس کا نام عربوں کے نزدیک ہر ڈک بن رائک تھا، منصورہ کے حاکم عبد اللہ بن عمر بیاری سے مددخواست کی کہ اس کو سنڌی را وی بعض کے نزدیک ہندی، زبان میں مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم سے متعلق معلومات قلم بند کر کے بھیجی جائی۔ عبد اللہ بن عمر بیاری نے ایک شخص کو بلایا جو اصلًا عراق کا باشندہ تھا، مگر اس کی پیدائش اور

۱۔ تذییب التذییب۔ ابن حجر عسقلانی۔ ج ۱، ص ۲۶۱۔

۲۔ نزہت الخواطر۔ مولانا عبد الحکیم حسینی لکھنؤی۔ ۱۳۰۱، ص ۲۳۳ (طبع اول۔ دائرۃ المعارف)

تعلیم و تربیت منصورہ میں ہوتی تھی۔ وہ نہایت ذہین اور سمجھ دار آدمی تھا اور اس ملک کی متعدد زبانوں سے واقفیت رکھتا تھا۔ عبد اللہ نے اس کے ساتھ راجہ کی خواہش بیان کی۔ چنانچہ اس عالم نے ایک قصیدہ تیار کیا اور راجہ مذکور کی خواہش کے مطابق اس میں تمام اسلامی تعلیمات بیان کیں۔ عبد اللہ نے یہ قصیدہ راجہ مہروک بن رائکس کے پاس پہنچ دیا۔ راجہ نے یہ قصیدہ سننا تو بہت خوش ہوا اور عبد اللہ سے، اس شاعر اور عالم کو اپنے دربار میں کھینچنے کی درخواست کی۔ عبد اللہ نے اس کو پہنچ دیا۔ وہ تین سال وہاں مقیم رہا اور اس اتنا میں راجہ اس سے بہت خوش رہا۔ ۲۷۶ھ میں وہ عالم، والی سندھ عبد اللہ سے ملا، عبد اللہ نے اس سے راجہ کے سبق پر
کچھ سوال کیے تو اس نے بتایا کہ جس وقت یہیں دہل سے چلا ہوں، اس وقت وہ صدقہ دل سے اسلام قبول کر چکا تھا لیکن حکومت چین جانے کے خوف سے اس کا انداز میں کرتا تھا۔ اس عالم نے راجہ سے متعلق بہت سے دلچسپیات بیان کیے، جن میں ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ راجہ نے اس سے سندھی نبایں قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کی فرمانش کی۔ وہ روزانہ چند کتابیات کی تفسیر کر کے اس کو سنا تا جاتا۔ جب وہ سعدہ نبی کی اس آیت پر سچیا؛ *عَمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِظَامَ وَهُنَّ كَرِيمٌ*^۱ اس کا ترجیح بنتیا اور تفسیر بیان کی تو راجہ اس وقت جو اہرات سے مرضع سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، کہا "ایک دفعہ پھر اس کی تفسیر بیان کرو۔" چنانچہ وہ بارہ تفسیر بیان کی گئی، تو وہ غور اگھنے سے انڑپا اور زمین پر چند قدم چلا، پھر پیشانی زمین پر کھدی، حالانکہ زمین پر پانی چھڑکا ہوا تھا اور وہ بہت تر ہو چکی تھی، راجہ اس قدر رویا کہ اس کے رضاوں پر مٹی جم گئی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا: "بے شک یہی رب ہے جو اذلی اور ابدی ہے؟ اس کے بعد اس نے ایک مکان تیار کرایا، جہاں تنہائی میں دننا نہ خدا کی عبادت کرتا اور وقت پر نماز پڑھتا، مگر لوگوں پر یہ ظاہر کرتا کم و تہنمائی میں سلطنت کے اہم معاملات پر غور کیا کرتا ہے۔"

سندھ کا یہ ایک گم نام عالم اور فخر تھا اور جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکا ہے غیر عربی زبانوں میں سندھی ہے۔ پہلی زبان ہے جس کو قرآن مجید کا ترجیح و تفسیر کرنے اور اسلامی تعلیمات کو اشعار کے قالب میں دلائل کا فخر جاہل ہوا۔

۱۔ سورہ نبی کی آیت غبرہ ہے اور اس کا ترجیح یہ ہے۔ (ادیعی منکر اسلام کرتا ہے کہ) هر دویں گلی ہڈیوں کو کون

۲۔ بزرگ بن شہریار، عجائب المثل۔ ص۔ ۳۔

سندھ کر سے گا؟